



## سوال

(496) بازاروں میں بیچنے والے درآمدی گوشت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بازاروں میں فروخت ہونے والے اس گوشت کے متعلق کیا حکم ہے جو باہر سے درآمد کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے کھانا جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر جانوروں یا پرندوں کو ذبح کرنے والا شخص غیر کتابی ہو جس طرح کہ روس اور بلغاریہ یا ان کی طرح الحاد اور ترک ادیان میں مشابہت رکھنے والے کفار میں تو ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے، خواہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو کیونکہ اصل میں تو صرف مسلمانوں ہی کے ذبیحے حلال ہیں۔ ہاں البتہ قرآنی نص نے اہل کتاب کے ذبیحوں کو بھی مستثنیٰ قرار دے دیا ہے لہذا اگر کوئی یہودی یا عیسائی کسی زندہ جانور کو گردن سے ذبح کرے یا اونٹ کو (سینے کے گڑھے میں زخم لگا کر) نحر کرے اور بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے تو اسے کھانا بالاتفاق جائز ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَطْعَمُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ... سورة المائدة ۵

”اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔“

اور اگر وہ عدا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اور نہ کسی اور کا نام لے تو اس کے جواز کے بارے میں اختلاف ہے، اگر وہ غیر اللہ کا نام لے تو اسے کھانا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ مردار ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَمْزِجُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْحٌ... سورة الانعام ۱۲۱

”اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔“

اور اگر وہ اس کے سر پر ہتھوڑا مارے یا اسے بجلی کا کرنٹ لگائے جس سے وہ مرجائے تو یہ جانور ”موقوٰذہ“ شمار ہوگا، خواہ بعد میں اس کی گردن کاٹ بھی لے اور اللہ تعالیٰ نے ”موقوٰذہ“ کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَيْمَانُ الدِّمِّ وَالْحَمُّ الْبَحْرِيُّ وَمَا أُكْلَ لُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَيْمُونَةُ وَالْمَوْقُودَةُ ۚ ... سورة المائدة ۳

”تم پر طبعی موت مرا ہوا جانور اور (بہتا ہوا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چمیر پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے... یہ سب حرام ہیں۔“

ہاں البتہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد اگر جانور ابھی تک زندہ ہو اور اسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو پھر اسے کھانا حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے :

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَشْرُوبِيُّ وَالنَّطِيُّ وَمَا كَلَّ السَّبْحُ إِلَّا ذَكَيْتُمْ ۚ ... سورة المائدة ۳

”اور جو جانور چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جسے درندے پھاڑ کر کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو۔“

محرمات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے جو ابھی تک زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا گیا ہو کیونکہ ذبح کیا ہوا جانور مردہ نہیں ہوتا۔

جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ مر گیا یا اسے بجلی کا کرنٹ دیا گیا اور وہ مر گیا تو اسے کھانا بالاتفاق حلال نہیں ہے خواہ گلا گھونٹنے یا بجلی کا کرنٹ لگانے یا اسے کھانے کے وقت بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھ لی جائے۔ یاد رہے نبی ﷺ کا یہ فرمان کہ تم :

سواطیہ واتم وکوه» (صحیح بخاری)

”اللہ کا نام لو اور کھا لو۔“

ان لوگوں کے ذہنوں کے بارے میں تھا جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور معلوم نہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لہذا اللہ کا نام لینے کے سلسلہ میں شک کرنے والے مسلمانوں کو آپ نے یہ حکم دے دیا کہ وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں اور ان ذبح کرنے والوں کے معاملہ کو اسی پر محمول کریں جو مسلمانوں میں مروج ہے کہ وہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیتے ہیں۔

حداماعندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 456

محدث فتویٰ